




FITS 40"-80"

Full Motion Cantilever TV Mount

INSTRUCTION



**UP TO 80" TVs
AND 45.5KG**

Model-P6



Full Motion Cantilever TV Mount

Contents

Product Specifications	3/16
Cautions	4-10/16
Parts list	11/16
1. Remove the plastic cover for later use	12/16
2. Install Flexi Mount onto Masonry or Concrete	12/16
3. Install Flexi Mount onto Wood Stud	13/16
4. Display Installation	14-15/16
5. Tilt angles adjustment	15/16

产品规格	3/16
注意事项	4-10/16
零件清单	11/16
1.取下塑胶墙板盖备用	12/16
2.安装到水泥墙或砖墙上	12/16
3.安装到木筋墙上	13/16
4.安装电视机	14-15/16
5.倾斜角度调整	15/16

Product Specifications



VESA: 200×200-600×400mm

LOAD CAPACITY
100 LBS/45.5KG MAX

Cautions

⚠ Important Safety Information

EN

Please read the entire instructions and safety information prior to assembly. Failure to do so may cause personal injury, product damage and additional property damage .

1. Products must be installed by professionals.
2. If you do not understand the instructions or have any concerns or questions, please contact a qualified local installer.
3. Do not install or assemble if the product or hardware is damaged or missing, if you require replacement parts, please contact your local distributor or the manufacturer for assistance.
4. This product fits most 40"-80" LCD screens and maximum weight can't exceed 45.5kg/100lbs.
5. This product has been designed for use on a vertical wall constructed of wood studs (minimum 2" x 4" inch (51x102mm) or masonry(solid concrete).
6. The wall must be capable of supporting minimum 3 times the weight of the total load (the mount, the TV and all accessories).
7. Do not use this product for any other application than original designed.
8. This product contain moving and small parts, please use with caution.
9. When installing flat panel display, please do not damage electrical wiring or power source.
10. Installation and routing cables on the bracket must be secured against twisting and squeezing.
11. The manufacturer cannot be liable to the wall of mounting, or incidental or consequential damages arising thereof.
12. The manufacturer disclaims any liability for the modifications, improper installation, or installation over the specified weight range. The manufacturer will not be liable for any damages arising out of the use of, or inability to use, the product.

CN

请确保在开始组装产品前已完整阅读完说明书及安全须知,错误的安装可能会导致人身伤害和财产损失。

1. 必须由专业人员安装产品。
2. 如果您不理解安装说明或者遇到任何疑问或问题, 请与具备资格的当地安装人员联系。
3. 如果产品或配件受损或缺失, 请勿组装或安装。如需备品零件, 请联络当地经销商或制造商以获取帮助。
4. 此产品适用于多数40"-80"电视机, 可承重范围为: 45.5kg/100lbs。
5. 此产品是在由木墙柱结构或砌筑结构(实心混凝土) 搭建的垂直墙面上使用。规定的墙壁木立柱最小尺寸为2"x4"英寸(51x102毫米)。
6. 为确保安全安装,用于安装产品的墙壁能承受相当于总荷载的3倍重量(支架、电视机及其配件)。
7. 除了产品本身设计的用途外,请不要将此产品用于其他领域。
8. 此产品包含滑动和小部件,为确保安全,请小心使用。
9. 当安装电视机时, 请注意电源电线不要被损坏。
10. 塑线管理时,请确保安装在支架上的电源线及相关线材需固定好, 防止扭曲和挤压。
11. 制造商无法对安装墙体负责, 对于因墙体不负重荷产生的偶然或间接损坏无法承担相关责任。
12. 厂商在此声明,对于以下情况所造成的损毁或损伤不承担任何法律责任: 对产品自行改造,或安装不当,或安装超过此产品所注明的承重范围, 或使用不当,或因使用而造成此产品磨损或毁坏。

KR

제품의 조립을 시작하기 전에 본 취급설명서 및 안전수칙을 잘 읽어보시기 바라며, 잘못된 설치로 인한 인명피해 및 재산피해가 발생할 수 있습니다.

1. 제품은 전문가들에 의해 설치되어 있어야 합니다.
2. 설명을 이해할 수 없거나 의문 혹은 문제 사항이 있으면 자격을 소지한 설치인원에게 연락해야 한다.
3. 제품 혹은 부품이 파손 혹은 누락된 경우, 조립 혹은 설치를 진행하지 말아야 한다. 부품 혹은 기타 모듈의 교체를 준비할 경우 현지 대리상에게 연락하여 도움을 받도록 한다.
4. 본 제품은 40"- 80"LED/PDP에 적용되며 최대 감당부하는45.5kg / 100lbs이다.
5. 본 제품은 말뚝기둥구조 혹은 벽돌구조(콘크리트)로 건축된 수직벽에 사용된다. 규정 된 벽의 말뚝기둥 최소치수는2"x4"인치(51x102 mm).
6. 안전 설치를 확보하기 위하여 제품을 설치하는 벽은 총부하의 3배 중량(지치대, TV및 부품)을 감당할수 있어야 한다.
7. 본 제품은 디자인 용도의 기타 분야에 사용해서는 안된다.
8. 본 제품의 디자인은 폴리형 부품을 포함하였으므로 안전을 위하여 주의를 기하여 바란다.
9. 텔레비전을 설치할 때 전원 코드가 손상되지 않도록 주의하십시오..
10. 와이어 관리시 선재는 비틀림 및 눌림을 방지될수있도록 유의하세요..

11. 제조업체는 설치될 벽에 대한 책임을 질 수 없으며 벽이 하중을 지탱하지 못한 직접적 또는 간접적 손상에 대한 책임을 질 수 없습니다.
12. 제조업체는 여기에서 다음과 같은 상황으로 인한 손상 또는 손상에 대해 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다: 제품의 자체 개조, 부적절한 설치, 또는 이 제품에 명시된 하중 범위를 초과한 설치, 부적절한 사용 또는 사용으로 인한 제품의 마모 또는 파괴 상황.

JP

組み立て前に、説明書と安全情報をすべてお読みください。出ないと、人身傷害、製品の損傷、および追加の物的損害が発生する可能性があります。

1. 取り付けには専門家が 필요합니다。
2. 説明書の内容をわからない、或いはいかなる疑問や問題に遇ったら、据え付けの資格がある据え付け人員と連絡してください。
3. もし製品或いは部品は損壊され、或いは欠陥がある場合、組立或いは据え付けないほうが良い。もしあなたは部品或いは他のものを取り替える必要がある場合、当地の特約店に連絡して援助を得るためです。
4. この製品は40"-80"液晶ディスプレイ/プラズマディスプレイに適用できて、最大荷重量は45.5kg / 100lbsである。
5. この製品は木製の壁の柱の結構、或いはれんがで築く結構(中が詰まっているコンクリート)5が建てる垂直である壁に使用すること。規定された壁の木製の柱の寸法は2"x4"インチ(51x102ミリメートル)であり。
6. 安全据え付けることをするために、製品据え付け用の壁は総荷重量の3倍に相当する重さに耐えることができる(支え、テレビ及び部品)。
7. 製品自身のための設計した用途を除く、この製品を他の領域に使用しなさい。
8. 本製品には摺動部品や小さな部品が含まれておりますので、安全確保のためご使用には十分ご注意ください。
9. テレビを設置する際は、電源コードを傷つけないように注意してください。
10. ワイヤハーネスを管理する際は、ブラケットに取り付けられた電源コードおよび関連配線がねじれやみ出しがないよう固定してください。
11. 荷重量に耐えない、或いは意外による垂直である壁が損壊され、メ-カ-はいかなる責任を負わない。
12. メ-カ-はここで声明を出し、以下の情況による発生した損壊或いは損害に対し、いかなる法律責任を負わない:製品に自分で改造する場合、或いは据え付けるのが妥当でない場合、或いはこの製品が明記した耐えることができる最大荷重量を超えるものを据え付ける場合、或いは使用が妥当でない場合、或いは使用によるこの製品が磨損或いは破壊される場合。

TC

1. 必須由專業人員安裝產品。
2. 如果您不理解安裝說明或者遇到任何疑問或問題，請與具備資格的當地安裝人員聯系。
3. 如果產品或配件受損或缺失，請不要組裝或安裝。如果您需要備換零件或其他，請聯絡當地的經銷商或製造商以獲取幫助。
4. 此產品適用於多數40"-80"電視機，可承重範圍為：45.5kg/100lbs。
5. 此產品是在由木牆柱結構或砌築結構(實心混土) 搭建的豎直牆面上使用。規定的牆壁木立柱最小尺寸為2"x4"英寸(51x102毫米)。
6. 為確保安全安裝，用於安裝產品的牆壁能承受相當於總荷載的3倍重量(支架、電視機及其配件)。
7. 除了產品本身設計的用途外，請不要將此產品用於其他領域。
8. 此產品涉及包含滑動部件和小部件，為確保安全，請小心使用。
9. 當安裝電視機時，請注意電源電線不要被損壞。
10. 塑線管理時，請確保安裝在支架上的電源線及相關線材需固定好，防止扭曲和擠壓。
11. 廠商不對由於不負重荷或意外造成豎直牆壁的損壞負責。
12. 廠商在此聲明，對於以下情況所造成的損毀或損傷不承擔任何法律責任：對產品自行改造，或安裝不當，或安裝超過此產品所註明的承重範圍，或使用不當，或因使用而造成此產品磨損或毀壞。

AR

1. ن.بصصختما لبق نمتاجتتملا تيبئت بجير
2. إذا أنت لا تفهم الدليل، أو تلقى أية أسئلة أو استفسارات، الرجاء اتصل بالموظفين المواطنين في الترابيب.
3. إذا أنت المنتجات أو الأجزاء تالفة أو مفقودة، الرجاء عدم تجميع أو ترأيب. إذا أنت تحتاج إلى تغيير قطع غيار وغيرما، الرجاء اتصل بالموزع المحلي للحصول على المساعدة.

4. ويطبق هذا المنتج إلى "40-80" شاشات الكريستال السائل شاشة بلازما الجدار ، وفي أبرد حمولة الحاملة لـ 45.5 kg / 100 lbs.
5. هذا المنتج ينطبق علي سطح الجدار العمودي للانشاءات بهيكل جدار الخشب أو ميكل البناء (خرسانة الصلبة). أصغر حجم العمود الخشبي للجدار المعين لـ "4x2" بوصة (102 x 51 ملليمتر).
6. لضمان سلامة التثبيت ، جدار ترتيب المنتجات يمكن أن تتحمل 3 أضعاف وزن يساوي الحمولة الكلية (الآطار ، والتلفزيون وملحقاتها).
7. بالإضافة إلى فائدة تصميم المنتج في حد ذاته ، الرجاء عدم استخدام هذا المنتج في مناطق أخرى.
8. يشمل التصميم لهذا المنتج أجزاء الانزلاق ، الرجاء الحذر مع الاستخدام للسلامة.
9. .ابو طعم نوكي نارا رايلا نا تحطلام ي جري ، نويز قلنا تبيند دند
10. صقلا وا طغضلاو فقللا دضد تلاكلا تانايلا نيمد بجيو ، بيبانا ، لئذ ن م م هلا
11. لا تتحمل المصنع مسؤولية لأضرار الجدار العمودي الناجمة بسبب حمل الأثقال أو الحوادث.
12. المصنع في هذا البيان ، لا تتحمل أي مسؤولية قانونية للأضرار أو الإصابات الناجمة بسبب الشروط التالية : التحول الذاتي للمنتج ، أو التثبيت غير سليمة ، أو ترتيب أثاث من آبار حمولة الحمل التي يحددها المنتجات ، أو الاستخدام غير صحيحة ، أو البلي أو تلف الناجم لهذا المنتج بسبب الاستخدام.

RU

1. Должен быть установлен профессионалами
2. Если вы не понимаете инструкции по установке или не сталкиваются с какими -либо проблемами, Пожалуйста, свяжитесь с подходящим местным работником
3. Если продукт или аксессуары повреждены или отсутствуют, не собирайтесь и не устанавливайте. Если вам нужно заменить детали или другие, пожалуйста, свяжитесь с местными дилерами, чтобы получить помощь.
4. Этот продукт подходит для жидкокристаллических дисплеев 40 "-80" /плазменных экранов с диапазоном нагрузки 45,5 kg /100 фунтов
5. Этот продукт используется на прямой поверхности стены, построенной деревянной стеновой конструкцией или структурой класса (твердое вещество). Оплаченная стена стены составляет 2 "x4" дюйма (51x102 мм).
6. Чтобы обеспечить безопасную установку, стены, используемые для установки продукта,могут противостоять в 3 раза больше веса, эквивалентного общей нагрузке (кронштейн, телевизор и его аксессуары) Анкет
7. За исключением дизайна самого продукта, пожалуйста, не используйте этот продукт в других областях
8. Конструкция этого продукта содержит скользящие детали для безопасности, пожалуйста,используйте его внимательно.
9. При установке телевизора обратите внимание на то, чтобы не повредить провод Power Wire.
10. Важно, чтобы блок питания и кабель передачи данных имели анти -тщательное и сжатие или разрезание.
11. Производитель не несет ответственности за повреждение вертикальной стены из -за сброса или аварии.
12. Производитель заявляет здесь, что ущерб или ущерб, нанесенный следующей ситуациейДиапазон нагрузки -неправомерного использования, или вызванный этим продуктом для износа или разрушения из -за использования.

ID

1. Produk harus diinstal oleh para profesional.
2. Jika anda tidak dapat memahami tentang keterangan atau ada apapun pertanyaan, silakan hubungi staf pemasangan yang berkualifikasi.
3. Jika ada produk atau bagian rusak atau hilang, silakan jangan memasang sendiri. Jika perlu mengubah bagian atau lain, silakan hubungi pedagang(dealer) tempatan untuk bantuan.
4. Produk ini berlaku untuk LCD 40 "-80"/dinding layar plasma (Plasma Display Panel), beban terbesar adalah 45.5kg / 100lbs.
5. Produk ini digunakan pada dinding vertikal yang berstruktur tiang kayu atau beton padat. Ukuran minimal tiang kayu dinding yang ditetapkan adalah 2"x4" inci (51x102 milimeter).
6. Untuk menjamin keselamatan pemasangan, dinding harus dapat menanggung sekurang-kurangnya 3 kali total beban berat (penyangga, TV dan aksesorinya).
7. Selain penggunaan desain produk itu sendiri, jangan menggunakan produk ini untuk tujuan (bidang) lain.
8. Produk ini meliputi bagian geser, untuk keselamatan, harap berhati-hati dalam penggunaan.
9. Ketika TV menginstal, perlu diketahui bahwa kabel listrik tidak akan rusak.

10. Yang penting, listrik dan kabel data harus dijamin dengan memutar dan meremas atau geser.
11. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerusakan dinding vertikal yang disebabkan oleh beban berat terbesar atau kecelakaan.
12. Dengan disini perusahaan menyatakan bahwa perusahaan tidak menanggung apapun kewajiban hukum terhadap kerusakan dan cedera yang diakibatkan oleh sebab-sebab berikut : transformasi produk sendiri, pemasangan sendiri yang tidak betul, memasang beban berat yang besar dari ketentuan, penggunaan salah serta pengausan (lecat, goresan) dan kerusakan yang diakibatkannya.

VN

1. phải do nhân viên chuyên nghiệp cài đặt .
2. nếu xem không hiểu phần thuyết minh hay gặp phải những nghi vấn , vấn đề .thì hãy liên lạc với nhân viên ở địa phương có đủ tư cách trình độ .
3. nếu sản phẩm hay linh kiện bị hư hay bị thất lạc thì đừng có lắp ráp hoặc lắp ráp .nếu muốn thay linh kiện hoặc những cái khác , thì hãy liên lạc với nhà cung ứng ở địa phương để được giúp đỡ .
4. sản phẩm này thích hợp dùng cho màn hình tinh thể lỏng 40 – 80 in , sức chịu đựng lớn nhất là 45.5kg/100lbs.
5. sản phẩm này sử dụng trên bề mặt tường gỗ hoặc tường gạch bằng phẳng ,quy định cây trụ gỗ bề mặt tường nhỏ nhất là 2 x 4 in (51x 102 mm).
6. để đảm bảo lắp đặt an toàn , tường để lắp đặt phải chịu đựng tương đương trọng lượng gấp 3 lần (giá đỡ ,màn hình TV,linh kiện khác).
7. ngoại trừ công dụng của bản thân sản phẩm đã thiết kế , đừng đem sản phẩm sử dụng cho lĩnh vực khác .
8. sản phẩm này có thiết kế bộ phận trượt , để an toàn , sử dụng cẩn thận .
9. khi lắp đặt TV, chú ý đừng làm hư dây điện ,dây nguồn .
10. đặt biệt quan trọng nữa là , dây nguồn và dây tín hiệu phải có thiết kế phòng tránh cong gãy ,đề hoặc cắt đứt .
11. nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm đối với bề mặt tường không mang được vật nặng hay những sự cố khác gây ra .
12. nhà sản xuất một lần nữa xin nhắc lại , đối với những trường hợp dưới đây gây ra hư hỏng hay làm tổn thương sẽ không chịu một trách nhiệm gì trên luật pháp , tự chỉnh sửa sản phẩm , hoặc lắp đặt không đúng ,hoặc lắp đặt quá sức chịu đựng của sản phẩm ,sử dụng không đúng , hoặc do sử dụng làm sản phẩm này hư mòn hoặc hư hỏng .

TH

- 1.ควรติดตั้งโดยผู้ช่างผู้ชำนาญงาน
- 2.หากท่านไม่เข้าใจคำอธิบายในการติดตั้งอุปกรณ์ควรติดต่อช่างผู้ชำนาญงาน
- 3.ไม่ควรถูกติดตั้งอุปกรณ์หากพบว่า อุปกรณ์ ชื่นส่วน ขาด หรือมีไม่ครบจำนวนตามที่ระบุ กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อเปลี่ยนสินค้าใหม่ทันที
- 4.อุปกรณ์รุ่นนี้เหมาะสำหรับทีวีแอลซีดี พลาสมา ขนาด 40"-80" สามารถรับน้ำหนักได้ 45.5กก. (100 ปอนด์)
- 5.อุปกรณ์รุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อติดตั้งบนผนังไม้เนื้อแข็ง ขนาดโครงไม้อย่างน้อย 2"x4" (51x102 มม.) หรือบนกำแพงอิฐ (คอนกรีต)
- 6.เพื่อความปลอดภัยผนังและกำแพงที่ใช้ติดตั้งควรรับน้ำหนักได้ 3 เท่าของน้ำหนักอุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ ประกอบเข้าด้วยกัน (ขาเหล็ก ทีวี และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ)
- 7.ห้ามใช้อุปกรณ์รุ่นนี้ กับการใช้งานอื่นๆ ที่มิใช่วัตถุประสงค์ตามที่ได้ออกแบบไว้เบื้องต้น
- 8.อุปกรณ์รุ่นนี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่ปรับเปลี่ยนได้ กรุณาใช้ด้วยความระมัดระวัง
- 9.กรุณาตรวจสอบ สายไฟฟ้ของทีวี มิให้ชำรุดเสียหายในขณะติดตั้ง
- 10.ข้อสำคัญ สายไฟและสายสัญญาณต่างๆต้องถูกประกอบให้ถูกต้องตามจุดที่มีการ ปับนหมุนบิด หรือโยกได้
- 11.ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายของพื้นผิวผนัง กำแพงอาคาร ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการติดตั้ง
- 12.ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การดัดแปลง,ปรกรณ์ การติด ตั้งที่ไม่ถูกต้อง การใช้งานอุปกรณ์เกินขนาดน้ำหนักติดตั้ง และการใช้งานอันผิดวัตถุประสงค์



1. Die Produkte müssen von Fachleuten installiert werden.
2. Si vous ne comprenez pas les instructions, de même que si vous avez un doute ou des questions, veuillez contacter un installateur qualifié.
3. Si vous découvrez que le produit est endommagé ou que des fixations sont manquantes ou endommagées, n'installez pas le produit. Si vous avez besoin de pièces de rechange, contactez le service de votre distributeur local.
4. Ce produit convient à la plupart des 40"-80" LCD / plasma screen; poids maximal de LCD / écran plasma: 45.5kg / 100lbs.
5. Ce produit a été conçu pour une utilisation sur un mur vertical en bois, construit. Clous ,minimum 2 po x 4 po (51x102mm) ou de la maçonnerie (béton).
6. Pour que la sécurité de l'installation, le mur d'installation soit sécuritaire, le mur d'installation doit pouvoir supporter 3 fois le poids de la charge appliquée(le montage, la TV et tous les accessoires).
7. Ce produit ne doit pas être utilisé pour un usage à d'autres fins que l'original conçu.
8. Ce produit peut contenir des pièces mobiles. Veuillez l'utiliser avec prudence.
9. Quand la télévision d'installer, s'il vous plaît ne faites pas attention au cordon d'alimentation esendommagé.
10. Surtout, réseau et les câbles de données doivent être protégées contre la torsion et de pressage ou de cisaillement.
11. Le fabricant ne portent pas la responsabilité de la paroi verticale de montage, ou dommages fortuits ou consécutifs qui découlent de celle-ci.
12. Le fabricant décline toute responsabilité quant à la modification, mauvaise installation, ou l'installation sur la gamme de poids. Le fabricant ne sera pas responsable pour tout dommage découlant de l'utilisation ou l'incapacité d'utiliser le produit.



1. Los productos deben ser instalados por profesionales.
2. Si las instrucciones no le resultan claras o si tiene alguna duda o pregunta, comuníquese con un instalador calificado.
3. Si el producto o el hardware está dañado o no se le envió alguna pieza, no realice la instalación ni el montaje. Si necesita piezas de repuesto, comuníquese con un distribuidor local para recibir asistencia.
4. Este producto se aplica a 40" - 80" LCD / Plasma pantalla de pared, la mayor capacidad de carga para el 45.5kg / 100 libras.
5. I Este producto ha sido diseñado para su uso en una pared vertical construida de madera espárragos, mínimo de 2 "x 4" pulgadas (51x102mm) o albañilería (sólido de hormigón).
6. Para la seguridad de la instalación, el montaje de la pared que se debe apoyar a un mínimo de 3 veces el peso de la carga total (el montaje, la televisión y todos los accesorios).
7. I Este producto no está diseñado para soportar la carga de un televisor CTR o de pantalla plana.
8. Este producto puede contener componentes móviles. Úselo con precaución.
9. Cuando la televisión de la instalación, tenga en cuenta que el cable de alimentación no se dañe.
10. Es importante destacar que, conectados a la red y los datos de los cables deben estar protegidos contra la torsión y compresión o cizallamiento.
11. El fabricante no tendrá la responsabilidad de la pared vertical de montaje, o daños incidentales o consecuentes derivados del mismo.
12. El fabricante declina toda responsabilidad respecto a la modificación, instalación, o de la instalación durante el rango de peso especificado. El fabricante no será responsable por cualquier daño que se deriven de la utilización o la imposibilidad de usar el producto.



1. I prodotti devono essere installati da professionisti.
2. Se non si capisce il manuale o si trova del dubbio qualsiasi o delle domande, si prega di mettersi in contatto con il personale d'installazione qualificato .
3. Se mancano I prodotti o gli accessori, si prega di non assemblare o installare. Se avete bisogno di sostituire I parti di ricambio o gli altri, si prega di mettersi in contatto I distributori locali per ottenere l'aiuto.
4. Questo prodotto si adatta a LCD di 40"- 80", la capacità massima del carico è 45.5kg /100lbs.
5. Questo prodotto è utilizzato sul parete vertical della struttura della colonna di legno o muratura (il cemento solido). La misura minima è di 2"x4" police(51x102mm) della colonna di legno del parete per disposizione.

6. Per garantire l'installare sicura, il parete per installare i prodotti deve potere sostenere 3 volte di peso al carico totale (il telaio, la TV e gli accessori).
7. Inoltre l'uso del disegno del prodotto stesso, si prega di non utilizzare questo prodotto in altri territori.
8. Il disegno di questo prodotto include i parti scorrevoli, si prega di utilizzarlo con l'attenzione per maggior sicurezza.
9. Quando l'installazione di TV, si prega di non prestare attenzione al cavo di alimentazione e danneggiato.
10. È importante sottolineare che dalla rete e data-cavi deve essere assicurato contro torsione e compressione o taglio.
11. La fabbrica non è responsabile del parete verticale danneggiato a causa di non trasportare i carichi pesanti o l'inaspettato.
12. Dichiarazione dalla fabbrica, non si assume alcuna responsabilità leggere se causa i danni o le perdite a causa di seguenti: trasforma in propria iniziativa il prodotto, o l'assemblaggio non è corretto, o l'installazione supera il carico Massimo di questo prodotto, o l'uso non è giusto, o il sfregio o il danno del prodotto a causa dell'uso.



1. Die Produkte müssen von Fachleuten installiert werden.
2. Wenn Sie die Anweisung nicht verstehen oder wenn Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit professionellen Installateuren in Verbindung.
3. Wenn die Produkte oder Ersatzteile beschädigt oder fehlend sind, bitte installieren Sie nicht, und setzen Sie auch nicht zusammen. Wenn Sie Ersatzteile oder anders für Auswechslung bekommen möchten, setzen Sie sich bitte mit einem lokalen Wiederverkäufer in Verbindung, um Hilfe zu bekommen.
4. Dieses Produkt eignet sich mit 40"-80" Flüssigkristallbildschirm/Plasma-Schirm an der Wand und einem Höchstgewicht 45,5kg / 100lbs.
5. Dieses Produkt soll an einer stehenden Wand, die mit Holzsäulen oder massivem Beton gebaut ist, benutzt werden. Nach der Festlegung sollen die Holzsäulen mindestens 2"x4" Inch (51x102 mm) sein.
6. Der Sicherheit halber soll die Wand, an der das Produkt installiert wird, fähig sein, dreimal des Gesamtgewichts von Gerüst, Fernsehgerät und dessen Ersatzteilen zu tragen.
7. Nutzen Sie das Gerät nie für andere Bereichen, die nicht in diesem Benutzerhandbuch dargestellt sind.
8. Das Produkt enthält Rutschpartiteilen, die Sie für Sicherheit bitte vorsichtig benutzen.
9. Bei der Installation von TV, bitte beachten Sie, dass das Netzkabel nicht beschädigt werden.
10. Insbesondere sind Netz- und Datenleitung gegen Verdrehen sowie Quetschen oder Scheren zu sichern.
11. Für die Beschädigung der stehenden Wand wegen übergewicht oder Unfall ist der Hersteller nicht verantwortlich.
12. Der Hersteller erklärt hier, dass wir für Beschädigungen auf folgenden Gründen nicht gesetzlich verantwortlich sind: eigenmächtige Umwandlungen des Produkts, unpassende Installationen, das verlangte Maximaladegewicht übersteigende Installationen, unpassendes Benutzen, oder Beschädigungen wegen Gebrauch.










1. Produkt powinien być montowany przez wykwalifikowanego instalatora.
2. Jeżeli nie rozumiesz instrukcji lub masz pytania co do montażu uchwytu, skontaktuj się z wykwalifikowanym instalatorem.
3. Nie montuj uchwytu jeżeli baruje elementów zestawu lub dowolny jego element jest uszkodzony. Jeżeli potrzebujesz zamiennej części do uchwytu skontaktuj się z dystrybutorem.
4. Produkt przeznaczony jest do większości telewizorów i monitorów LCD, LED, plazma 40"-80", których waga nie przekracza 45.5kg.
5. Produkt został zaprojektowany do montażu na pionowej ścianie betonowej lub konstrukcjach drewnianych o minimalnych wymiarach 51x102 mm.
6. Dla bezpieczeństwa instalacji upewnij się czy ściana jest w stanie wytrzymać potrójną wagę 3 elementów (uchwyt, telewizor, dodatkowe akcesoria).
7. Nie używaj produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
8. Produkt zawiera ruchome części, zachowaj ostrożność podczas użytkowania.
9. Podczas instalacji telewizora na uchwycie uważaj na kabel zasilający oraz źródło prądu.
10. Przewody zasilające i przenoszące dane powinny być zabezpieczone przed skręcaniem, ściskaniem i rozciąganiem.
11. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane niewłaściwym montażem uchwytu na ścianie.
12. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzanie zmian konstrukcyjnych, nieprawidłową instalację oraz montaż powyżej dopuszczalnej wagi telewizora. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe wskutek użytkowania uchwytu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

1. Producten moeten worden geïnstalleerd door professionals.
2. Als u de handleiding niet begrijpt of nog vragen of problemen heeft, kunt u contact opnemen met een bevoegde monteur.
3. Als het product of accessoire beschadigd of vermist is, moet u het niet monteren. Indien u onderdelen of iets anders nodig heeft, kunt u contact opnemen met de lokale leverancier voor hulp.
4. Dit product is geschikt voor 40"- 80" LCD/plasma-scherm. De maximale belastingscapaciteit is 45.5kg / 100lbs.
5. Dit product wordt gebruikt op een verticale muur die gebouwd wordt met houten pilaren of metselwerk(massief beton). De bepaalde minimale diameter van de houten pilaren bedraagt 2"x4" (51 x 102mm) .
6. Voor de veiligheid van het monteren, moet de muur voor de montage drie maal het totale gewicht (houder, TV en accessoires) kunnen dragen.
7. Behalve de toepassing volgens het ontwerp, gebruik dit product niet voor andere doeleinden.
8. Het ontwerp bevat glijdende onderdelen, gebruik daarvoor met zorg.
9. Bij het installeren van TV, gelieve te noteren dat het netsnoer niet worden beschadigd.
10. Belangrijk is, net-en data-kabels moeten worden beveiligd tegen draaien en te knippen of knippen.
11. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor beschadigingen van de muur die worden veroorzaakt door overbelasting of ongeval.
12. De fabrikant verklaart hierbij dat zich geen juridische verantwoordelijkheid draagt voor beschadigingen of lichamelijk letsel die worden veroorzaakt door de volgende situaties: zelf-modificatie van het product, onjuiste installatie, het monteren met overbelasting, verkeerde gebruik, en/of slijtage of beschadiging van het product door gebruik.

1. Os produtos devem ser instalados por profissionais.
2. Contate com as pessoas qualificadas de instalação quando não tiver dificuldade em compreender a instrução ou tiver problemas.
3. Não faça montagem ou instalação quando os produtos ou acessórios estiverem estragados ou faltos. Contate com o distribuidor local quando precisar peças de reparações ou as outras coisas.
4. Este protudo aplica-se aos painéis de LCD/telas de plasma com tamanho de 40" a 80", e a carga máxima é 45.5kg / 100lbs.
5. Este produto é usado em parede vertical que construído pelas estruturas de colunas de madeira ou de alvenarias(concreta de sólido).O tamanho mínimo que pedido de stud de madeira de parede é 2"x4" polegada (51x102mm).
6. Para garantir a instalação segura, a parede para a instalação pode aguentar o peso equivale 3 vezes a carga total(os suportes, a televisão e os acessórios relativos) .
7. Não use este produto nos domínios que não relativos aos usos designados especialmente para o projeto.
8. O design de produto inclui as peças de escorregão, é necessário cuidar a segurança durante o uso.
9. Quando a TV a instalação, observe que o cabo de alimentação não será danificado.
10. Importante, alimentação e dados cabos devem estar protegidos contra torção e compressão ou de corte.
11. O fabricante não responsabiliza pelos estragos que ser causados pela sobrecarga ou pelo acaso.
12. O fabricante declara daqui que isentará de qualquer responsabilidade nos seguintes casos de estragos : a alteração de produto de utilizador próprio, a instalação imerecida, a carga da instalação passa a data máxima marcada, o uso imerecido, ou a abrasão e o estrago por causa de uso.

Parts List


1					2		
				3		4	
A	B	C	D	E			
							
4X M6×25	4X M8×45	4X Φ15×Φ8.2×10	4X Φ17×Φ10.2×5	1X 10mm			
F	G	H	I	J			
							
5X M7×70	5X Φ10×Φ7×66	2X M6×8	8X M6×15	8X M6			

 **Caution :** Do not over tighten the screws and some hardware included may not be used.

Manual							
							
Tightening Direction	Loosening Direction	Phillips Screwdriver	Tape Measure	Adjustment	By Hand	Allen key	+ Tightening - Loosening
拧紧方向	拧松方向	螺丝刀	卷尺	调整	手工	六角扳手	+ 拧紧 - 拧松



1. Remove the plastic cover for later use

1




2. Install Flexi Mount onto Masonry or Concrete



2.1




Install mount on masonry or concrete (Need 2 Men)



2.2





2.3




3. Install Flexi Mount onto Wood Stud





3.1





Install mount on wood stud
(Need 2 Men)



3.2



3.3



EN Ensure screws are secured firmly.

CH 拧紧螺丝

KR 나사를 조이다

JP ネジを締めます

RU затянуть винты

TC 擰緊螺絲

AR تأكيد من تثبيت البراغي بإحكام

ID Kencangkan sekrup

VN Siết chặt các ốc vít

TH ขันสกรู

DE Schrauben festziehen

FR Serrer les vis

IT Stringere le viti

PL Dokręć śruby

NL Draai de schroeven vast

PT Aperte os parafusos


ES Apretar los tornillos

4. Display Installation


- 4.1 Please adjust the interface assembly position according to VESA

Install interface assembly to TV

①




②




- 4.2 Please adjust the interface assembly position according to VESA

Install interface assembly to TV

①






②



4.3


Attach TV to the mount




4.4

Cables management

①



②



5. Tilt angles adjustment



⚠ Ensure screws are secured firmly.

◆ 拧紧螺丝

◆ 나사를 조입니다

◆ ネジを締めます

◆ затянуть винты

◆ 拧紧螺絲

◆ يكد من تثبيت البراغي بإحكام

◆ Kencangkan sekrup

◆ Siết chặt các ốc vít

◆ 締め直す

◆ Schrauben festziehen

◆ Serrer les vis



◆ Apretar los tornillos

◆ Stringere le viti

◆ Dokreć šrubby

◆ Draai de schroeven vast

◆ Aperte os parafusos





Official Website

**Kunshan Hongjie Electronics Co., Ltd.**

1050, Fu Chun Jiang Road, Economic Development Zone, Kunshan City, Jiangsu Province, China. 215333

TEL: +86-512-57971777 FAX: +86-512-57970778

E-Mail: info@nbavmount.com www.new-nb.com

We reserve the right to modify or alter instructions.

No modification or alteration without formal notice.

执行标准: Q/320583 AJHJ001-2022(企业标准)

Perform Standard: Q/320583 AJHJ001-2022(Enterprise Standard)

N/W: 5.3KG(11.6LBS)

G/W: 5.7KG(12.5LBS)

Carton Size(WxHxD)

17.8"x12.1"x2.1"

452x308x55mm

MADE IN CHINA

EU Representative: Share Info GmbH

Address: Heerdter Lohweg 83, 40549

Düsseldorf, Germany

eu-rep@share-info.com